

نوجوانوں کی کووڈ-19 حفاظتی ٹیکوں کی اپوائنٹمنٹس کیسے بک کروانی ہیں

اس صفحے میں دکھایا گیا ہے کہ نوجوانوں کو کووڈ-19 ویکسین لگانے کیلئے اپوائنٹمنٹس کیسے بک کروانی ہیں۔

جاننے کی اہم چیزیں:

- 12 سال یا اس سے زائد عمر کے نوجوانوں کیلئے حفاظتی ٹیکے محفوظ، مؤثر اور کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔
- 12-17 سال کی عمر کے نوجوان جو ہالٹن میں رہتے اور اسکول میں پڑھتے ہیں، اور 18 سال یا اس سے زائد عمر کے طلباء جو اس موسم خزاں میں سیکنڈری اسکول میں واپس آ رہے ہیں، وہ اپوائنٹمنٹس بک کروا سکتے ہیں۔
- نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جون میں اپنی پہلی خوراک یعنی پہلا ٹیکہ، اور اگست کے آخر تک دوسری خوراک یعنی دوسرا ٹیکہ لگوائیں۔

نوجوانوں کی کووڈ-19 ویکسینیشن اپوائنٹمنٹس کیسے بک کروائیں

1. آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کروانے کیلئے، [ہالٹن کا کووڈ-19 ویکسینیشن کلینک ویب پیج](#) دیکھیں۔

2. نیلے بینر میں "ابھی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں" پر کلک کریں۔ ویکسین کی اپوائنٹمنٹ بکنگ کے فارم تک رسائی حاصل کرنے کیلئے، آپ کو کروم، سفاری، فائر فاکس یا مائیکروسوفٹ ایج (صرف ونڈوز 10) کی تازہ ترین ورژن استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔

 Book your appointment now

Use the latest version of Chrome, Safari, Firefox or Microsoft Edge (windows 10 only)

3. "اہلیت" کے سیکشن کے تحت "12-17 سال عمر کے بچے اور سیکنڈری اسکول میں واپس آنے والے اہل طلباء" والی ٹائل کا انتخاب کریں اور ذیل میں مطلوبہ معلومات کو مکمل کرنے کیلئے نیچے اسکرول کریں۔

4. نوجوان کی تاریخ پیدائش اور پوسٹل کوڈ درج کریں۔ الرجیز سے متعلق سوال کا جواب دیں۔ اس سوال کا جواب دیں جس پر اپوائنٹمنٹ بک ہو رہی ہے (1 اور 2 ٹیکہ) اور "آگے (Next)" پر کلک کریں۔

a. اگر آپ "صرف دوسرے ٹیکے" کیلئے اپوائنٹمنٹ بک کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے ٹیکے کی تاریخ بتانے کیلئے کہا جائے گا، کون سی ویکسین لگائی گئی تھی اور آیا کہ پہلا ٹیکہ اونٹاریو میں لگایا گیا تھا۔

5. "کلائنٹ انفارمیشن" کے تحت، اس سوال کا جواب دیں کہ آیا نوجوان اپوائنٹمنٹ بک کروا رہا ہے یا والدین / سرپرست ان کی طرف سے بکنگ کروا رہے ہیں۔ نوجوان کا پہلا اور آخری نام درج کریں۔ اگر نوجوان کے پاس اونٹاریو ہیلتھ کارڈ ہے، تو اس کا نمبر درج کریں۔ اگر ان کے پاس اونٹاریو ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، تو "نہیں" کو منتخب کریں، کسی دوسری شناخت کو منتخب کریں، اور شناختی نمبر درج کریں۔ اگر ان کے پاس فہرست میں دی گئی کسی متبادل شناخت میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ "دوسرا

(other) "کو منتخب کر سکتے ہیں اور کسی متبادل شناخت کا نمبر درج کر سکتے ہیں جیسے کہ اونٹاریو کا فوٹو کارڈ یا اسنوڈنٹ کارڈ۔ اگر نوجوان کے پاس متبادل شکل میں کوئی بھی شناخت موجود نہیں ہے، تو اپوائنٹمنٹ بک کروانے کیلئے 311 پر کال کریں۔

a. نوجوان کی جنس، پتہ، فون نمبر، ای میل ایڈریس (اس فرد کا ای میل ایڈریس جسے اپوائنٹمنٹ کی تصدیق بھیجی جائے گی) درج کریں اور واضح کریں کہ آیا آپ بالٹن ریجن سے اپنی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں۔ "آگے (Next)" پر کلک کریں۔

6. "اپوائنٹمنٹ منتخب کریں" کے تحت پہلے ٹیکے کا مقام اور اپوائنٹمنٹ کا وقت منتخب کریں، "آگے (Next)" پر کلک کریں۔ دوسرے ٹیکے کا مقام اور اپوائنٹمنٹ کا وقت منتخب کریں اور "آگے (Next)" پر کلک کریں۔ (نوٹ: یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں اپوائنٹمنٹس ایک ہی جگہ پر یک ہوں)۔

7. "جائزہ" کے تحت، اس سوال کا جواب دیں کہ آیا آپ اسٹینڈ بائی لسٹ میں شامل ہونا چاہیں گے یا نہیں تاکہ ممکنہ طور پر آپ قبل از وقت جلد اپوائنٹمنٹ حاصل کر لیں۔ تصدیق کریں کہ آیا فراہم کردہ معلومات صحیح ہیں اور "ابھی بک کریں" پر کلک کریں۔

8. "ہو چکا (Done)" کے تحت، پہلے اور دوسرے ٹیکے کی اپوائنٹمنٹ کے مقام، تاریخوں اور فراہم کردہ اوقات کی تصدیق کریں۔ آپ اس صفحے کو پرنٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے، تو آپ اپوائنٹمنٹ کی تفصیلات کے ساتھ ایک توثیقی ای میل موصول کریں گے۔ اپوائنٹمنٹ والے دن کے قریب آپ ایک یاد دہانی کا ای میل بھی موصول کریں گے۔

اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کروانے کیلئے ان اقدامات پر عمل کرنے میں مشکل درپیش ہو، تو مدد کیلئے آپ 311 پر کال کر سکتے ہیں۔ براہ مہربانی 311 پر صرف اس صورت میں فون کریں اگر آپ آن لائن بک کروانے سے قاصر ہیں۔